



LIDA Stories

lidastories.net

موسم کے بارے میں بات کرنا / Parler de la

météo

✍️ Espen Stranger-Johannessen

🔗 Ognjen Drageljević

📄 Yasir Tayab (ur), Zina (fr)




This work is licensed under a Creative Commons

[Attribution 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

موسم کے بارے میں بات کرنا

Parler de la météo




✍️ Espen Stranger-Johannessen

🔗 Ognjen Drageljević

📄 Yasir Tayab

|| 2

🗨️ اردو / français



“سردیوں کے دن آرہے ہیں۔ درجہ حرارت کچھ ہے؟”

...

“Les journées commencent à se rafraîchir. Quelle est la température ?”



“میں امید کر رہا ہوں ایسا نہ ہو۔ مجھے اصل میں خراب

موسم پسند نہیں ہے، خاص طور پر بددل کی گرج اور

آسہنی بجلی۔ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ آسہنی بجلی مجھ پر

نہ گر جائے۔”

...

“Je n’espère pas. Je n’aime vraiment pas le mauvais temps, surtout le tonnerre et les éclairs. J’ai peur que la foudre me frappe.”

“Regarde ces nuages sombres. Il va pleuvoir demain. Il y aura beaucoup de vent aussi. Peut-être qu’il y aura un orage.”

...


”ان سجدہ فطروں کو دیکھو۔ کل فطریش ہوگی۔ بہت تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ شاید طوفان آجائے گا۔“



“Il fait neuf degrés. Nous sommes toujours en automne, mais ce sera bientôt l’hiver.”

...

”درجہ حرارت نو ڈگری ہے۔ ابھی تک موسم خزاں ہی ہے، لیکن جلد ہی موسم سرما آجائے گا۔“





“مجھے موسم بہار کا انتظار ہے، لیکن میں موسم گرہ کو
زیدہ پسند کرتا ہوں، جب یہ اچھا اور گرم ہوتا ہے۔”

...

“J’ai hâte d’être au printemps, mais je
préfère l’été, quand il fait beau et
chaud.”



“مجھے سردی کا موسم برا نہیں لگتا۔ لیکن بارش اور ہوا
مجھے پسند نہیں ہے۔”

...

“Je me fiche du froid. C’est la pluie et le
vent que je n’aime pas.”